



میں نے ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی، تو میں نے ان میں سے کسی کو بھی ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھتے ہوئے نہیں سنا

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نماز ”الحمد للہ رب العالمین“ سے شروع کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے: میں نے ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی، تو میں نے ان میں سے کسی کو بھی ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھتے ہوئے نہیں سنا اور مسلم کی روایت میں ہے: میں نے نبی ﷺ، ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز ”الحمد للہ رب العالمین“ سے شروع کرتے تھے اور ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کا ذکر نہ شروع قراءت میں اور نہ آخر میں کرتے تھے

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے - متفق علیہ]

انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے، نبی ﷺ کے ساتھ لمبی صحبت و وابستگی اور خلفاء راشدین کی ہم نشینی کے باوجود، کبھی ان میں سے کسی کو نماز میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھتے نہیں سنا؛ نہ ہی شروع قراءت میں اور نہ ہی آخر میں۔ وہ نماز ”الحمد للہ رب العالمین“ سے شروع کرتے تھے بسم اللہ کو جہراً پڑھنے کی مشروعیت کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے اس سلسلے میں کئی ایک اقوال وارد ہیں اور ان میں صحیح قول یہی ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ سرّاً پڑھا گا؛ نماز خواہ سری ہو یا جہری

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3327>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

